



پاکستان نے اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ جیت لیا

- فائنل میں بنگلہ دیش کو 77 رنز سے شکست
- روحیل نذیر کی شاندار سنچری
- محمد حسنین کے 3 شکار

لاہور، 23 نومبر 2019ء:

اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 77 رنز سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔

میرپور بنگلہ دیش میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنائے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین روحیل نذیر نے شاندار سنچری اسکور کی۔ عمران رفیق نے نصف سنچری بنائی۔ ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 224 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فاسٹ باؤلر محمد حسنین نے 3 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فییلڈنگ کا فیصلہ کیا تو پاکستان کے دونوں اوپنرز 41 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہو کر پولین واپس لوٹ گئے۔ حیدر علی 26 اور عمیر بن یوسف 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں اوپنرز کے آؤٹ ہونے کے بعد وکٹ کیپر بیٹسمین روحیل نذیر اور عمران رفیق نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 117 رنز کی شراکت قائم کی۔ عمران رفیق 4 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 62 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔

چوتھی وکٹ کے لیے روحیل نذیر نے سعود شکیل کے ہمراہ 85 قیمتی رنز جوڑ کر میچ میں قومی ایمرجنگ ٹیم کی پوزیشن مزید مستحکم کر دی۔ روحیل نذیر نے 12 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 113 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ کپتان سعود شکیل 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ مٹل آرڈر بلے باز خوشدل شاہ کی 16 گیندوں پر 27 رنز کی اننگز نے میچ میں پاکستان کا مجموعہ 300 کے پار لگا دیا۔

قومی ایمرجنج ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے سومن خان نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔

302 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کے بلے باز لمبی شراکت بنانے میں ناکام رہے اور پاکستان کی باؤلنگ لائن اپ کے سامنے وقفے وقفے سے آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹتے رہے۔ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 44 ویں اوور میں 224 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے عفیف حسین 49 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ قومی ایمرجنج ٹیم کی جانب سے محمد حسنین نے 3 جبکہ خوشدل شاہ اور سیف بدر نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk